

[1963]

سپریم کورٹ رپورٹ

428

16 اپریل 1962

از عدالت الاعظمی

ریاست بمبئی

بنام

سردار ویسنکٹ راؤ کرشناراؤ گوجر

(اے۔ کے۔ سرکار، کے۔ سباراؤ اور جے۔ آر۔ مدھولکر، جسٹسز)

ماکان حقوق کا خاتمہ۔ آبادی میں ملکیت کے مقامات کا تصفیہ۔ بے پرداہ اوس اور چوتھے، چاہے عمارتیں، کامفہوم، ایم۔ پی۔ ماکان حقوق کا خاتمہ (جا گیریں، محل، الگ تھلگ زمینیں) ایکٹ 1950 (ایم۔ پی۔ آئی آف 1951)، دفعہ 5 (اے)۔

ان کے گاؤں میں مدعاعلیہ کے ملکیتی مفاد کو ایم پی ماکانہ حقوق (جا گروں، محلوں، الگ تھلگ زمینوں) ایکٹ، 1950 کے ذریعہ ختم کر دیا گیا تھا، اور دفعہ 4 کے ذریعہ تمام حقوق، عنوان اور مفادات ریاست کو تفویض کیے گئے تھے۔ اس قانون کی دفعہ 5 (اے) میں کہا گیا ہے کہ جہاں ملکیت دار سے متعلق کوئی 'عمارت' آبادی کی زمین کے کسی حصے پر موجود ہے، وہ زمین اور ان عمارتوں کی زمین سابق مالک کے پاس آباد کی جائے گی۔ اوس اور چبوتوں سے ڈھکی ہوئی زمین جس پر شیداعمیر کیے گئے تھے، مدعاعلیہ کے ساتھ آباد کی گئی تھی لیکن وہ زمین نہیں جس پر کھلے کھلے کھلے اور ٹٹے اور چبوترے موجود تھے۔

یہ کہتے ہوئے کہ مدعاعلیہ قانون کی دفعہ 5 (اے) کے تحت اس زمین کو اپنے پاس آباد کرنے کا حق رکھتا ہے جس پر اونٹ اور چبوترے موجود تھے اور اس کے پاس موجود زمین بھی۔ دفعہ 5 (اے) میں استعمال ہونے والے 'میڑا' عمارتوں کے اندر کھلے کھلے اور ٹٹے اور چبوترے آتے ہیں۔ دفعات سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں

مالک نے گاؤں کے مقامات کی حدود کے اندر آبادی کے مقام پر کچھ تعمیر کرنے پر پیسہ خرچ کیا تھا، وہ جگہ اس کے ساتھ آبادی کی جانی تھی۔ اس کے مطابق لفظ اعمارتوں ۲۱ کو اس کے لغوی معنی اسی چیز کے طور پر دینے ہوں گے جو تعمیر کی گئی ہے۔

مورہ بمقابلہ ولیمز، (1892) 217 کیوبی مورلیس بمقابلہ ان لینڈریونیو کے کمشنز، (1915) 1 کے بی 716 اور سیموئل اسمال بمقابلہ پارک وے آٹو سپلائیز، 49 اے ایل آر 1361) ممتاز ہیں۔

سول اپیل نمبر 455/-

سابق کے 16 جنوری 1956 کے فیصلے اور حکم نامے سے خصوصی اجازت کے ذریعے اپیل ناگپور ہائی کورٹ نے 1954 کی پیشہ نمبر 448 میں لکھا۔

اپیل کنندگان کی طرف سے این ایس بندرا اور ڈی گپتا۔

جواب دہندگان کی طرف سے پر شو قم ترکم داس، جی بھ گھاٹے اور نو نیت لال شامل ہیں۔

16 اپریل 1962 کو عدالت کا فیصلہ سنایا گیا۔

جسٹس مدھولکر : مدعاعلیہ ضلع ناگپور کی تحصیل عمر کے موزہ بھیواپور کے مالک تھے۔ گاؤں میں ان کی ملکیتی دیکھنی کو مددھیہ پر دیش کے ملکیتی حقوق (جاگیروں، محلوں، الگ تھلگ زمینوں) ایکٹ، 1950 کا ایم پی اے کے ذریعے ختم کر دیا گھیا تھا۔ اس قانون کی دفعہ 4 کی بنیاد پر، بھیواپور میں تمام راستوں، گاؤں کی جگہوں، ٹوپیوں، بازاروں اور نیلوں میں تمام حقوق، عنوانات اور مفادات، دیگر کے علاوہ، ریاست مددھیہ پر دیش کو ریاست کے مقاصد کے لئے تفویض کیے گئے ہیں، جو ایکٹ کی دفعہ 4(اے) کے تحت تمام الازامات سے آزاد ہیں۔ ریاستوں کے ری آر گناہر لیشن ایکٹ، 1956 کی دفعات کے تحت یہ حقوق ریاست ممبئی کو حاصل ہیں اور اب ریاست مہاراشٹر میں ممبئی ری آر گناہر لیشن ایکٹ، 1960 (1960 کی

بنیاد پر۔ دفعہ 4 (اے) کی دفعات درج ذیل ہیں:

'مالکان یا کسی بھی ایسے شخص کو تمام حقوق، مالکانہ حقوق اور مفادات حاصل ہیں جو مالک کے ذریعے اس طرح کے علاقے میں زمین (قابل کاشت یا بخراج) زمین، گھنے جنگل، جنگل، درخت، ماہی گیری، ہنوفیں، تالاب، پانی کے نالے، کشتیاں، راستے، گاؤں کی جگہیں، ٹوپیاں، بازار اور میلے ریاست کے مقاصد کے لئے ریاست کو ہر قسم کی ذمہ داریوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ اور ہن قرض یا چارج یا کوئی ملکیتی حق اس ایکٹ کی دفعات کے تحت مالک کو اس طرح کے ملکیتی حق کے لئے ادا کیے جانے والے معاوضے کی رقم پر چارج ہو گا۔

اس قانون کے نافذ اعمال ہونے کے بعد 19 جنوری 1952 کو فیصلہ ہونے والے روپنیو کیس نمبر 583/1-4/1950-51 میں معاوضہ افسر، عمر کی عدالت میں معاوضہ افسر، عمر کی عدالت میں معاوضے کی کارروائی شروع کی گئی۔ معاوضہ افسر نے کہا کہ خسرہ نمبر 61/1 میں سے 0.14 ایکڑ زمین جو گاؤں کے کاغذات میں آبادی کے طور پر درج ہے جس میں بازار منعقد ہوتا ہے، کو دفعہ 5 (اے) کے تحت مدعاعلیہ کے ساتھ طے کیا جانا چاہتے۔

زمین کے ایک حصے پر جو بازار کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور ڈھونڈنے اور چبوترے، شیڈ کے ساتھ یا اس کے بغیر، اور راستوں کے ذریعے الگ الگ موجود ہیں۔ یہ عام بنیاد ہے کہ وہ جواب دہندہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بھی عام بات ہے کہ اٹو اور چبوتروں سے ڈھکی ہوئی زمین جس پر شیڈ تعمیر کیے گئے ہیں، اسے منکورہ بالا روپنیو کیس میں مدعاعلیہ پر آباد کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ حالانکہ، مدعاعلیہ کی دلیل یہ تھی کہ نہ صرف وہ شیڈ اور زمین جس پر وہ شیڈ بناتے گئے تھے، بلکہ کھلے کھلے اٹے اور چبوترے بھی ان کے پاس قانون کی دفعہ 5 (اے) کی دفعات کے تحت اور ان ڈھانچوں کے لیے مختص زمین کی بنیاد پر طے کیے جانے چاہیے تھے۔ ان کے مطابق، اس زمین کا کل رقمہ ۸۵ ایکڑ ہے۔ اس لئے مدعاعلیہ نے معاوضہ افسر کے حکم کے خلاف اپیل کو ترجیح دی جس میں اس پر صرف 0.14 ایکڑ زمین کو آباد کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ حالانکہ، اس اپیل کو ایڈیشنل کمشنر آف لینڈ ریفارمز اور ایڈیشنل کمشنر آف سلیٹلممنٹ، مدھیہ پردیش نے ۲۸ مارچ، ۱۹۵۲ کو خارج کر دیا تھا۔ اس کے بعد جواب دہندہ سے کہا گیا کہ وہ اپنے اٹا اور چبوترے ہنڑاد میں۔

اس کے باوجود، سابق مالاکان پر اوثا اور چبوتوں کے ذریعے ڈھکی ہوئی زمین کو آباد کرنے کے معاملے پر حکومت غور کر رہی تھی۔ 16 مئی، 1952 کو ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلسٹی، حکومت مدھیہ پردیش کی جانب سے ایک پریس نوٹ جاری کیا گیا، جس کا مادی حصہ اس طرح ہے:

حکومت کا مانا ہے کہ سابق مالاکان کو مواد وغیرہ ہٹانے کا جواعتیار دیا گیا ہے، اس سے ایسے معاملات میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہذا حکومت نے اس طرح کے معاملات میں مندرجہ ذیل لائحہ عمل طے کیا ہے:

(i) جہاں اوثا اور چبوترے اینٹ اور پتھر سے تعمیر کیے گئے تھے، وہاں ہونا چاہیے۔
سابق مالاکان کے پاس رہنے کی اجازت دی جائی چاہئے اور اس کے تخت زمین کو مدھیہ پردیش مالاکانہ حقوق ایکٹ 1950 (1951 کا) کی دفعہ 5 (اے) کے تخت حکومت کے ذریعہ طے کردہ شرائط و خوابط پر ان کے ساتھ طے کیا جانا چاہئے۔ اور

(ii) جہاں اوثا اور چبوترے کچھ میں ہوں، ان کے نیچے کی زمین کو سمجھا جائے۔
ریاستی حکومت کو تفویض کیا گیا ہے۔

لیکن اس پریس نوٹ کے جاری ہونے کے بعد حکومت نے بظاہر اپنے لاءِ افسران کے مشورے پر 22 جون 1954 کو ڈپٹی گمشنرز کوہدایات جاری کیں کہ وہ تمام سابق مالاکان کو ایک ماہ کا نوٹس دیں کہ وہ مواد کو ہٹا دیں، اولوں اور چبوتوں کی جگہ کو صاف کریں۔ اس کے مطابق 13 جولائی 1954 کو مدعاعلیہ کو ایک نوٹ جاری کیا گیا۔

اس سے ناراض ہو کر مدعاعلیہ نے ناگور ہائی کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 226 کے تخت ایک عرضی دائر کرنے کو ترجیح دی جس میں معاوضہ افسر اور اپیلیٹ اتحارٹی کے ذریعہ جاری کردہ احکامات کے ساتھ ساتھ مدھیہ پردیش کی ریاستی حکومت کے 22 جون کے حکم کو منسوخ کرنے کے لئے ایک رٹ جاری کی جائے۔
1954، اور اس کی تعمیل میں 13 جولائی، 1954 کو نوٹس جاری کیا گیا۔ ہائی کورٹ نے عرضی کو منظور کرتے

ہوتے مذکورہ احکامات کو خارج کر دیا اور ریاستی حکومت کو بدایت دی کہ وہ بھیواپور کے خسرہ نمبر 61/1 کے پورے علاقے کو مدعایہ کے ساتھ ایسی شرائط و ضوابط پر طے کرے جو اس کے ذریعہ طے کی جائیں۔ واضح رہے کہ خسرہ نمبر 61/1 کا پورا رقمہ 12.85 ایکڑیا اس سے زیادہ ہے۔ ریاست مدھیہ پردیش نے آئین کے آٹیکل 133 (ایل) (سی) کے تحت ہائی کورٹ سے سرٹیفیکیٹ مانگا تھا لیکن سرٹیفیکیٹ نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد آئین کے آٹیکل 136 کے تحت اس عدالت کے سامنے خصوصی اجازت کی درخواست دائر کی گئی۔ اس عدالت نے 18 مارچ 1957 کے اپنے حکم کے ذریعہ اجازت دی تھی۔ اس طرح اپیل ہمارے سامنے آئی ہے۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہائی کورٹ نے مدعایہ کی عرضی کو اس نقطہ نظر پر منظور کیا تھا کہ اوٹہ اور چبوترہ وغیرہ قانون کی دفعہ 5 (اے) کے تحت عمارتیں ہیں اور اس کے نتیجے میں ریاستی حکومت ان کے ذریعہ احاطہ کی گئی زمین کو سابق مالکان کے پاس آباد کرنے کی پابند ہے۔ سرٹیفیکیٹ دینے کے لئے ہائی کورٹ میں دی گئی درخواست میں درج ذیل تین بنیاد میں اٹھائی گئی تھیں:

5۔ اس کے لئے غیر درخواست دہنہ کے دعوے کے مطابق کل مارکیٹ کا رقمہ صرف 2.85 ہے اور خسرہ نمبر 61/1 میں 12.85 ایکڑ کے پورے آبادی علاقے کو سابق مالک کے ساتھ حل نہیں کیا جاسکتا ہے۔

6۔ اس کے لئے بازار کے علاقے میں اولوں اور چبوتروں کو 1941 کے ایکٹ 1 کی دفعہ 4 (اے) کے ساتھ دفعہ 4 (ا) (اے) کے تحت زیر غور عمارت قرار نہیں دیا جاسکتا تھا اور قانون کے تحت سابق مالک کے ساتھ تصفیہ نہیں کیا جاسکتا تھا۔

(الف) کی دفعہ 5 (الف) میں بیان کردہ عمارتیں وہ عمارتیں ہیں جو آبادی میں واقع ہیں نہ کہ بازاروں میں کھڑی ہیں حالانکہ بازار آبادی میں بھی واقع ہو اور بازار میں اوٹہ اور چبوترے وغیرہ اس کا لازمی حصہ ہونے کی وجہ سے زرعی یا گھریلو مقاصد کے لئے استعمال ہونے والی دیگر عمارتوں سے واضح طور پر مختلف ہیں۔

تاہم، یہ پیرا سے ظاہر ہوگا۔ ہائی کورٹ کے اس حکم کی دوسری دفعہ جس میں اس بات کا سرٹیفیکٹ دینے سے انکار کیا گیا تھا کہ ریاست کے فاضل ایڈ وکیٹ جنرل نے قانون کی دفعہ 5 (اے) میں لفظ "عمارتوں" کو ہائی کورٹ کے ذریعہ دینے گئے معنی کی صداقت کو پیش نہیں کیا تھا۔ لیکن انہوں نے جو دلیل پیش کی وہ یقینی کہ اونٹاں اور چبوترے کے الفاظ گاؤں کی آبادی پر کھڑے ڈھانچوں تک محدود ہونے چاہئیں، سوائے اس کے جس پر بازار لگایا گیا تھا، جو دفعہ 4 (ایل) (اے) کے تحت ریاست میں ہے۔ حالانکہ، ہمارے سامنے مسٹر بندرا نے اس دلیل کو دہرا�ا، جس پر اصل میں ہائی کورٹ میں زور دیا گیا تھا کہ ایکٹ کی دفعہ 5 (اے) میں اونٹا اور چبوترے کو اس لفظ کے معنی کے اندر عمارت نہیں مانا جاسکتا ہے۔ ان کے مطابق یہ رعایت فاضل وکیل نے دی تھی۔ جنرل قانون کے سوال پر تھے اور ریاست اس رعایت کو واپس لینے کی حقدار ہے۔

ہماری رائے میں یہ سوال کہ آیا اونٹا اور چبوترے "عمارتوں" کی اصطلاح کے دائے میں آتے ہیں، خالصتاً قانون میں سے ایک نہیں ہے اور ریاست اس رعایت کو واپس لینے کی حقدار نہیں ہے۔ خصوصی اجازت کی عرضی میں بنیاد نمبر 5 اور 6 سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس عدالت کے سامنے جس چیز پر زور دینے کی کوشش کی گئی تھی وہ دراصل درخواست کی حمایت میں فاضل ایڈ وکیٹ جنرل کی طرف سے دباو ڈالا گیا تھا۔ سرٹیفیکٹ کی منظوری۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے مسٹر بندرا کو اس دلیل پر زور دینے کی اجازت دی کہ ایکٹ کی دفعہ 5 (اے) میں اونٹا اور چبوترے "عمارتوں" کی اصطلاح میں شامل نہیں ہیں۔

ایکٹ کی دفعہ 5 (اے) کا متعلقہ حصہ اس طرح ہے:

دفعہ 47 اور 63 کی دفعات کے تحت تمام کھلے انکلوژرز جو گھر یا مقاصد کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور 1948-49 سے فوراً پہلے بارہ سال تک مسلسل قضاۓ میں رہتے ہیں۔ غور و خوض کے لئے خریدے گئے تمام کھلے گھر کی سائیں؛ عمارتیں..... گاؤں کی کسی ایسی جگہ کی حدود کے اندر جس کا تعلق باہر جانے والے مالک یا کسی دوسرے شخص سے ہے، اس طرح کے مالک یا کسی دوسرے شخص کے پاس رہنا جاری رہے گا۔ اور اس کے علاقوں کے ساتھ اس کی زمین کو ریاستی حکومت ان شرائط و ضوابط پر اس کے ساتھ طے کرے گی جو وہ طے کرے گی۔

”گاؤں کی جگہ سے مراد کسی جا گیر یا محل میں آبادی ہے۔

دفعہ 5 (اے) ایکٹ کی دفعہ 4 (اے) (اے) سے مستثنی ہے۔ شک کی بات یہ ہے کہ دفعہ 4 (اے) میں اس زمین کی حالت میں سرمایہ کاری کا اہتمام کیا گیا ہے جس پر بازار لگایا جاتا ہے۔ لیکن دفعہ 5 (اے) کے ساتھ اس دفعہ کو پڑھنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جہاں آبادی زمین کے کسی بھی حصے پر مالک کی کوئی عمارت موجود ہے، اس زمین کے ساتھ ساتھ ان عمارتوں کی زمین کو سابق مالک کے ساتھ آباد کرنا ہو گا۔ جس زمین پر بازار لگایا جاتا ہے وہ گاؤں کی آبادی کی زمین کا حصہ ہے اور اس لئے ایسی زمین پر کھڑی تمام عمارتیں ایکٹ کی دفعہ 5 (اے) کے تحت آئیں گی اور انہیں سابق مالک کے ساتھ طے کرنا ہو گا۔

لہذا سوال صرف یہ ہے کہ کیا اوٹا اور چبوتر اکو عمارتوں کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ اس شق کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں سابق مالک نے گاؤں کی جگہوں کی حدود میں کسی چیز کی تعمیر پر پیسے خرچ کیا ہے، وہاں اس چیز کو اس کے ساتھ طے کرنا پڑا۔ لہذا الفظ ”عمارتیں“ 1 کو اس کے لغوی معنی دینے جانے چاہئیں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو تعمیر کی گئی ہے۔ تاہم سڑبرداری دلیل یہ ہے کہ کسی ڈھانچے کو عمارت کے طور پر تسلیم کرنے کے لئے اس کی دیواریں اور چھت ہونی چاہئے اور اس دلیل کی حمایت میں انہوں نے مور بنام ولیمز (1892) 1 کیوبی 217 فیصلے پر بھروسہ کیا۔ اس معاملے میں لارڈ ایشٹرنے مشاہدہ کیا ہے کہ عمارت کی اصلاح سے مراد عام طور پر چھت سے ڈھنکے ہوتے اینٹ اور پتھر کے تمام احاطے میں۔ لیکن انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس لفظ کو جو معنی دیے جائیں گے اس کا انحصار اس بات پر ہونا چاہیے کہ اس لفظ کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور جس سیاق و سبق میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں میٹرو پولیٹن بلڈنگز ایکٹ، 1855 (Vict. c. 122) 19 & 19 کی دفعات پر غور کیا جا رہا تھا جو رہائشی مکانات سے متعلق تھا۔ انہوں نے موریسن بنام کمشنز آف لینڈریونیو (1915) 1 کے بی 722 پر 176 کے فیصلے پر بھی بھروسہ کیا۔ ان یہ معاملہ فرانس (10-1909) ایکٹ، 1910 (10 میگاواٹ 7 سی 8) کے تحت تھا۔ جن مشاہدات پر انہوں نے بھروسہ کیا وہ درج ذیل ہیں:

یہ بالکل واضح ہے کہ اٹھاہر عمارتوں کا مطلب وہ سب کچھ نہیں ہے جسے کسی بھی طرح سے تعمیر کے طور پر بیان کیا جاسکتا ہے۔ اس کا مطلب عمارتوں سے زیادہ تنگ معنی میں عمارتیں ہیں، کیونکہ ایک محدود طبقے کے دیگر ڈھانچے بھی ہیں جن کو ذیلید فعدہ کی شرائط کے تحت بھی منظر رکھا جاسکتا ہے۔

ان مشاہدات سے ان کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے وہ واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ لفظ "عمارتؤں" کو قدرتی یا عام معنی دینے کے لئے ایک ایسی چیز ہے جو تعمیر کی گئی ہے۔ اگر قانون کی دفعات کوئی اور معنی دینے کا جواز پیش کرتی ہیں تو اس معنی میں ترمیم کی جائے گی۔ آخر میں انہوں نے سیموں سماں مقابلہ پارک وے آٹو سپلائیز (49ءے آئی آر 1361 پر 1363) کے فیصلے پر بھروسہ کیا۔ انہوں نے جن مشاہدات پر بھروسہ کیا ہے وہ درج ذیل ہیں:

"اپنے عام معنوں میں عمارات کا لفظ ایک ڈھانچے یا عمارات کو ظاہر کرتا ہے جس میں اس کی دیواروں کے اندر ایک جگہ شامل ہے اور عام طور پر چھت سے ڈھکی ہوتی ہے، جیسے گھر، گرجا گھر، دکان، گودام یا شیڈ۔"

"عمارات" کا لفظ زمین پر تعمیر کی ہر قسم کو شامل کرنے کے لئے نہیں رکھا جاسکتا ہے، جیسے باڑ، دروازے یا اس طرح کے دیگر ڈھانچے۔ اس کے وسیع تر معنوں میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب صرف ایک تعمیر ہو سکتا ہے جس کا مقصد رہائش گاہ کے طور پر استعمال اور پیشے یا تجارت، تیاری، زیورات یا استعمال کے کسی مقصد کے لئے ہے، جس میں کپڑا یا عمارات، جیسے گھر، اسٹور، چرچ، شیڈ شامل ہیں....."

ان مشاہدات کو اس ایکٹ کے تناظر میں غور کیا جانا چاہئے جس کا مطلب لیا جا رہا تھا اور جس تناظر میں وہ بنائے گئے تھے۔ وہاں عدالت کو اس بات پر غور کرنا پڑا کہ کیا پڑوں پیپوں کی تعمیر اور زیریز میں پڑوں ٹینکوں اور گڑھوں کی تعمیر ایک محدود عہد کے اندر ہے جس میں نکریٹ کے اطراف ڈوب گئے ہیں کہ کسی بھی قسم کی عمارت کسی سڑک کے ایک مخصوص فاصلے کے اندر تعمیر یا برقرار نہیں رکھی جائے گی۔ عدالت کے مطابق، خاص تناظر میں عمارتؤں کو اس کے مقبول معنی دیے جانے تھے۔ لہذا یہ معاملہ اپیل کندگان کی مدد نہیں کرتا۔

ہماری رائے میں ہائی کورٹ کا یہ کہنا بالکل درست تھا کہ ایکٹ کی دفعہ 5 (اے) میں استعمال ہونے والی 'بلڈنگ' کی اصطلاح کے تحت آنے والے اول اور چوتھوں کو بھی مدعاعلیہ کے ساتھ طے کیا جانا چاہیے۔

مسٹر بندرا نے نشانہ ہی کی کہ ہائی کورٹ نے حکومت کو مدعاعلیہ پر پورے خسرہ نمبر 61/1 کو نمائانے کے لئے کہنے میں غلطی کی کیونکہ اس کارقبہ 12.85 ایکٹ ہے، لیکن ڈھانچے کے ذریعہ احاطہ کی گئی زمین، بشمول قابل ذکر زمین، 52.85 ایکٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ مدعاعلیہ کے وکیل مسٹر پرشوٹم ترکم داس نے فوری طور پر اس

حقیقت کو تسلیم کیا اور کہا کہ ہائی کورٹ نے بگرانی کے ذریعے غلطی کی ہے اور مدعاعلیہ صرف 2.85 ایکڑ زمین چاہتا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا ہے۔ مسٹر بندرا نے اس کے بعد کہا کہ حکومت کو زمین کے کسی خاص علاقے کو آباد کرنے کی پدایت دینا مناسب نہیں ہو گا اور یہ ریونیو حکام پر چھوڑ دیا جانا چاہئے کہ وہ ان ڈھانچوں کے ذریعہ احاطہ کردہ صحیح علاقے اور ان مختلف ڈھانچوں کو الگ کرنے والے راستوں کا تعین کریں۔ ہم اس سے متفق ہیں۔ حکومت کو یہ ہدایت دینا کافی ہو گا کہ وہ مدعاعلیہ کے ساتھ اس بات کا تصفیہ کرے کہ ان ڈھانچوں کے تحت آنے والی پوری زمین اور کھسرہ نمبر 61/1 سے ان ڈھانچوں کو دی جانے والی زمین کا تصفیہ کیا جائے۔ اس زمین کا رقبہ کیا ہو گا اس کا تعین تصفیے کی کارروائی کے دوران کیا جانا ہے۔ اس ترمیم کے ساتھ ہم اخراجات کے ساتھ اپیل کو مسترد کرتے ہیں۔

اپیل خارج کر دی گئی۔